

برائے فوری اجراء

سٹی آف برامپٹن نے کینیڈا انفراسٹرکچر بینک کی جانب سے برامپٹن ٹرانزٹ کے لیے \$400 ملین کا عہد حاصل کر لیا ہے

برامپٹن، آن (21 جولائی 2021) – آج، سٹی آف برامپٹن اور کینیڈا انفراسٹرکچر بینک (CIB) نے باضابطہ طور پر اپنے معائدے کا اعلان کر دیا ہے، جس کے تحت CIB برامپٹن ٹرانزٹ کی 2017 تک 450 صفر اخراج والی بسوں (ZEBS) کی خریداری میں معاونت کرنے کے لیے \$400 ملین کا عہد کر رہا ہے۔

اس معائدے کے تحت، CIB کی جانب سے رقم ZEBS اور سڑکوں پر چارجنگ سے متعلقہ انفراسٹرکچر کے بڑے ابتدائی خرچ کو اٹھانے میں مدد دے گی۔ یہ CIB کا مینوسپلٹی کے ساتھ ZEB کی فائنانسنگ کے لیے تیسرا وعدہ ہے اور کینیڈا میں عوامی نقل و حمل کے الیکٹرک ذرائع پر اب تک کی سب سے بڑی تبدیلیوں میں سے ایک کو ممکن بنا رہا ہے۔

بسوں کے ایک پوری طرح الیکٹرک فلیٹ پر منتقل ہونا سٹی کے اپنے کاربن فٹ پرنٹ کو کم کرنے اور ایک ماحول دوست شہر بنانے کے وعدوں کی جانب ایک قدم ہے۔ ZEBS نقل و حمل کی قابل استحکام گاڑیاں ہیں، جو ہماری کمیونٹی کو مؤثر، خاموش اور صاف سفر کی سہولت فراہم کریں گی،

نقل و حمل کی گاڑیوں کو بجلی پر منتقل کرنا برامپٹن میں پیدا ہونے والی GHGs کو 2050 تک 80 فیصد کم کرنے کے سٹی کے سفر میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ موجودہ طور پر، برامپٹن ٹرانزٹ کے فلیٹ میں بیٹری سے چلنے والی آٹھ بسیں اور چار بالائی چارجرز ہیں، جو ہر سال تقریباً 235 ٹن CO₂ فی بس بچاتے ہیں؛ جو زوم بسوں کے 133 ہائیبرڈ الیکٹرک فلیٹ کا حصہ ہیں۔

حتمی معائدے کے لیے برامپٹن سٹی کونسل اور ریجنل کونسل کی جانب سے منظوری کی ضرورت ہو گی۔ CIB اور سٹی آف برامپٹن 2021 کے اختتام تک معاشی طور پر ایک حتمی نقطے پر پہنچنے کی توقع رکھتے ہیں۔

نکس

- [کینیڈا انفراسٹرکچر بینک نے سٹی آف برامپٹن کی 450 صفر اخراج والی بسوں پر منتقلی کے لیے \\$400 ملین تک کی رقم کا وعدہ کر لیا](#)

اقتباسات

"مجھے CIB کی جانب سے برامپٹن ٹرانزٹ کے لیے کئی ملین ڈالر کے وعدے کو خوش آمدید کہنے پر فخر ہے۔ ہم اگلے چھ سالوں میں برامپٹن کی سڑکوں پر 450 تک صفر اخراج والی بسیں خرید کر لانے کے اپنے ہدف کے ساتھ کینیڈا میں نقل و حمل میں انقلاب لا رہے ہیں۔ برامپٹن ایک ماحول دوست شہر ہے اور ایک ساتھ مل کر، ہم اپنا کاربن فٹ پرنٹ کم کر سکتے ہیں اور ایک مزید جدید اور قابل استحکام شہر بن سکتے ہیں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"ایک ایک بڑا وعدہ ہے۔ برامپٹن نقل و حمل کے ماحول دوست اقدامات میں رہنما کردار کا حامل ہے اور ہماری ٹرانزٹ کے لیے یہ وعدہ ہمارے رہائشیوں کا معیار زندگی مزید بہتر بنائے گا۔ اپنے ٹرانزٹ نیٹ ورک کو بجلی پر منتقل کرنا ہماری کونسل کے ماحول دوست شہر بننے کے عزم میں ایک ترجیح ہے۔"

- پال ویسینٹے، ریجنل کونسلر، وارڈز 1 اور 5: چیئر، پبلک ورکس اینڈ انجینئرنگ، سٹی آف برامپٹن

"CIB کا عہد سٹی کی ایک اچھی طرح مربوط، قابل استحکام اور توانائی کی بچت کرنے والے نقل و حمل کے نظام اور تمام لوگوں کے لیے مزید ماحول دوست شہر بنانے کی وقفیت میں معاونت فراہم کرتا ہے۔ ہم برامپٹن میں سرمایہ کاری لانے کے لیے اپنے اہم فریقین کے ساتھ کام کرنا جاری رکھنے کے لیے پرامید ہیں۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایگزیکٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

"سفر کے قابل استحکام ماٹلز کو ممکن بنانے والی بہتریاں طویل مدتی بڑھوتری اور صحت بخش اور قابل رہائش کمیونٹیوں کے لیے ریجنل آف پیل کے اہداف کے حصول میں کلیدی حیثیت رکھتی ہیں۔ 2027 تک صفر اخراج والی 450 بسوں کی خریداری میں برامپٹن ٹرانزٹ کی مدد کرنے کے لیے کینیڈا انفراسٹرکچر بینک کی جانب سے \$400 ملین ڈالر تک کی رقم کا یہ وعدہ ایک ایسے قدم کی بہتر مثال ہے، جس کا مقصد ایک ایسے طریقے سے بڑھوتری کا حصول ہو، جو ماحولیاتی، معاشرتی اور معاشی استحکام کو ترجیح بناتا ہے۔"

- نیٹیو ایانیکا، ریجنل چیئر

"مجھے اس بات پر بے حد خوشی ہے کہ CIB سٹی آف برامپٹن کے ZEB انیشیٹیو میں بڑی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ ہماری شراکت داری برامپٹن کو ایک ماحول دوست شہر بننے اور آنے والی نسلوں کو زیادہ صاف عوامی ذرائع آمد و رفت فراہم کرنے میں برامپٹن کی مدد کرے گی۔ یہ بلدیاتی انفراسٹرکچر کو جدید بنیادوں پر استوار کرنے میں حقیقی کردار ادا کرنے کا ایک بڑا موقع ہے۔ CIB ایسی سرمایہ کاریاں کرنا جاری رکھے گا، جو کینیڈینز کے لیے معیار زندگی کو بہتر کریں اور زیادہ قابل استحکام کمیونٹیوں کی معاونت کریں۔"

- ایہرن کوری، پریزیڈنٹ اینڈ سی ای او، کینیڈا انفراسٹرکچر بینک

"صاف تر ہوا، خاموش تر سڑکیں اور ہمارے بچوں کے لیے ایک محفوظ دنیا – یہی ہمارا ہدف ہے۔ سٹی آف برامپٹن کے ساتھ شراکت داری کر کے، کینیڈا انفراسٹرکچر بینک صفر اخراج والی 450 نئی بسوں کو برامپٹن کی سڑکوں پر لانے میں مدد دے گا اور پورے ملک میں صفر اخراج والی 5,000 مزید بسوں کے وعدے کو تکمیل کے قریب لائے گا۔ یہ سب نوکریاں پیدا اور معیشت کو تیزی سے شروع کر کے، ماحولیاتی تبدیلی سے لڑ کر اور زیادہ مشمول کمیونٹیاں بنا کر کینیڈا کے تمام باشندوں کے لیے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے حکومت کینیڈا کے منصوبے کا حصہ ہے۔"

- محترمہ کیتھرین میک کینا، منسٹر آف انفراسٹرکچر اینڈ کمیونٹیز

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 سے زائد لوگوں اور 75,000 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملنی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

پربجوت کینتھ

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca

جولی ڈیسجاردنز

کینیڈا انفراسٹرکچر بینک

514-963-3478 | idesjardins@cib-bic.ca